

برائے فوری اجراء

سٹی کا نرچرنگ نیبر ہڈز پروگرام 2020 میں ورچونل طور پر چلے گا

برامپٹن، آن (27 جولائی 2020) – سٹی آف برامپٹن کا نرچرنگ نیبر ہڈز پروگرام بروز منگل، 4 اگست 2020 کو واپس لایا جا رہا ہے۔ اس سال، عملے اور شہریوں کی صحت و سلامتی کے تحفظ کے لیے، یہ پروگرام آن لائن منتقل ہو رہا ہے۔

نرچرنگ نیبر ہڈز پروگرام کا مقصد شہری شمولیت کے عمل میں بہتری لانا، رہائشیوں کو اپنے علاقوں کو بہتر بنانے میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے تقویت فراہم کرنا اور انہیں وسائل سے مربوط کروانا ہے۔ رہائشیوں کے لیے اپنے علاقے کے متعلق جاننے اور اپنے لیے اہم چیزوں کو آن لائن شیئر کرنے کے تین نئے طریقے ہوں گے:

- **ورچونل واکس** – 15 پہلے سے ریکارڈ کردہ چہل قدمیوں کو طے شدہ تاریخوں پر سٹی کی ویب سائٹ پر پوسٹ کیا جائے گا۔ رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ ان چہل قدمیوں میں گھر سے آن لائن شرکت کریں یا فراہم کردہ ٹولز کے ذریعے جسمانی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے ذاتی طور پر آزادانہ طریقے سے چہل قدمی کریں۔
- **پڑوسی علاقوں کے سروے** – سٹی کمیونٹی کے علاقوں کو اور یہ کہ رہائشی ان سے کیسے تعامل کرتے ہیں، جاننا چاہتا ہے۔ رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے علاقے کے لیے آن لائن سروے مکمل کریں۔
- **آن لائن میپنگ ٹول** – ایک آن لائن میپنگ ٹول رہائشیوں کو اپنے علاقے میں مواقع، خدشات اور تبدیلیوں کی شناخت کرنے میں مدد دے گا۔

نرچرنگ نیبر ہڈز کے حوالے سے مزید معلومات اور علاقوں کی ورچونل چہل قدمی کی مکمل فہرست کے لیے www.brampton.ca/neighbourhoods ملاحظہ فرمائیں۔

فوری حقائق:

- برامپٹن 2040 ویژن میں ایک ضروری عمل کے طور پر ایک مکمل نیبر ہڈ آڈٹ کی نشاندہی کی گئی تھی۔ نرچرنگ نیبر ہڈز کو 2019 میں کمیونٹی کی رائے حاصل کرنے، رہائشیوں کو وسائل سے مربوط کرنے اور طویل مدتی طور پر، مقامی علاقوں کے لیے مخصوص طور پر تیار کردہ منصوبہ ہائے کار تیار کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔
- سٹی نے 2019 میں 11 نرچرنگ نیبر ہڈز واکس مکمل کیں، جن میں 400 سے زائد رہائشیوں نے شرکت کی۔

اقتباسات

"برامپٹن طرح طرح کے نگیوں سے جڑا ہوا ہے اور ہمارے رہائشی ان علاقوں کے حوالے سے ماہر ہیں، جنہیں وہ اپنا گھر کہتے ہیں۔ نرچرنگ نیبر ہڈز پروگرام برامپٹن کے رہائشیوں کو اپنی کمیونٹی میں مشغول ہونے کے پرجدت مواقع فراہم کرتا ہے اور میں اس سال منتخب کردہ 15 علاقوں میں رہنے والے تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ ان ورچونل واکس میں شامل ہو کر، علاقوں کے سرویز میں حصہ لے کر اور آن لائن میپنگ ٹول پر تبصرے کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"جبکہ سٹی کووڈ-19 کی عالمی وباء سے بحالی کے سفر پر گامزن ہے اور جہاں ممکن ہو سہولیات کو کھول رہا ہے، کمیونٹی کی حفاظت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس سال کا نرچرنگ نیبر ہڈز پروگرام رہائشیوں کو 15 مقامی علاقوں پر اپنی آراء کا اظہار کرنے کا اور سٹی کو قابل استحکام کمیونٹیاں بنانا جاری رکھنے میں مدد دینے کے لیے ایک محفوظ طریقہ فراہم کرتا ہے۔"

- مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز 3 اور 4: چیئر، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی، سٹی آف برامپٹن

"نرچرنگ نیبر ہڈز پروگرام رہائشیوں کو اپنی کمیونٹی کے متعلق اپنی پسندیدہ ترین چیزیں شیئر کرنے، آنے والے پراجیکٹس کے متعلق جاننے اور اس حوالے سے اپنے خیالات بیان کرنے، کہ انہیں مقامی طور پر کیا تبدیل ہونا پسند آ سکتا ہے، کے قابل بناتا ہے۔ جبکہ یہ

پروگرام اس سال تھوڑا سا مختلف ہو گا، رہائشی پھر بھی اپنے گھروں کی حفاظت سے اس میں شامل ہو کر اپنے علاقوں کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔"

- ہیٹ فورٹینی، ریجنل کونسلر، وارڈز 7 اور 8: وائس چیئر، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی، سٹی آف برامپٹن

"سٹی کووڈ-19 کی عالمی وباء کے دوران برامپٹن کے رہائشیوں کی خدمت کرنے کے لیے وقف ہے۔ جبکہ ہم نرچرنگ نیبر ہڈز پروگرام کو آن لائن منتقل کر رہے ہیں، ہم اپنی کمیونٹی کو محفوظ رکھتے ہوئے رہائشیوں کے ساتھ شامل ہونا اور ان کے خیالات کو سننا جاری رکھنے کے لیے پر امید ہیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca